

بہتر شروعات کا قومی سطح پر جائزہ گھرانوں سے سبق سیکھنا

ہم سسیکس یونیورسٹی کے خود آژاد محقق ہیں
ہم ان گھرانوں سے بات کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے "بیٹر اسٹارٹ" {بہتر مستقل} کے ساتھ کام
کیا ہے۔ کیا آپ اپنے تجربے سے ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں؟

کیا ہو رہا ہے؟

- "اے بیٹر اسٹارٹ" جسے مختصر طور پر ABS کہتے ہیں کو قومی لائٹری کمیونٹی فنڈ کر رہی ہے تاکہ بلیک پول، بریڈفورڈ، لیمبٹھ، ناٹنگھم اور ساؤتھ اینڈ میں چھوٹے بچوں اور گھرانوں کی مدد کی جا سکے۔
- نیشنل لائٹری کمیونٹی فنڈ نے تحقیق کرنے والی ایک ٹیم سے کہا کہ وہ قومی سطح پر تحقیق کریں اور یہ دیکھیں کہ ABS بچوں اور گھرانوں کے لئے کس قسم کی تبدیلی لا سکی ہے:
 - پانچ تنظیمیں قومی سطح کی یہ تحقیق کر رہی ہیں۔ نیٹسین سوشل ریسرچ، آر ایس ایم پارٹنرز، نیشنل چلڈرنز بیورو اور ریسرچ ان پریکٹس۔
 - یونیورسٹی آف سسیکس کے محققین گھرانوں سے بات کر رہے ہیں تاکہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔

اس میں حصہ لینے کے لئے کسے کہا جائے گا۔

- ہم چاہتے ہیں کہ کم عمر بچوں کے پچیس گھرانوں سے جنہوں نے اس سروس کو استعمال کیا ہو بات کر سکیں:
 - ہم ایسے گھرانوں سے بات کر رہے ہیں جن کے کم از کم ایک بچے کی عمر پیدائش سے بارہ مہینے کے اندر یا چوبیس مہینے سے چھتیس مہینے تک کی عمر ہو۔
 - ہم بچے کے والدین یا دیکھ بھال کرنے والے سے بات کرنا چاہیں گے۔ لیکن گھرانے کے دوسرے افراد بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔

اگر آپ نے حصہ لیا تو آپ کو کیا کرنا ہو گا؟

- ہم اگلے چار سالوں میں سال میں دو مرتبہ آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔
 - جس حد تک ممکن ہو سکا ایک ہی محقق آپ سے ہر مرتبہ بات کریں گے۔
- ہم چاہیں گے کہ:
 - سال میں ایک مرتبہ آ کر آپ سے ملاقات کریں۔
 - آپ کے ساتھ فون پر یا آن لائن یعنی زوم وغیرہ پر چھ مہینے کے بعد دوبارہ آپ سے بات کریں۔
- ہم ABS سروسز کے ساتھ آپ کے تجربے کو جاننا چاہیں گے:
 - یہ کہ آپ اور آپ کے گھرانے کے لئے کون سی باتیں اہم ہیں؟ کون سی چیزیں فائدہ دیتی ہیں؟ کون سی چیزیں اور بہتر ہو سکتی ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ اور کیا کیا جائے؟
- اگر آپ اجازت دیں گے تو ہم گفتگو کے نوٹس بھی لکھیں گے اور اپنی بات چیت کو ریکارڈ بھی کریں گے۔
 - اگر کوئی اور بھی اس گفتگو میں شامل ہونا چاہے لیکن یہ چاہے کہ ان کو ریکارڈ نہ کیا جائے تو جب وہ بولیں گے تو ہم ریکارڈنگ روک دیں گے۔ ہم ریکارڈنگ کو چیک کر کے اس امر کو یقینی بنائیں گے کہ کسی بھی ایسے شخص کی ریکارڈنگ نہ ہو جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بات چیت ریکارڈ ہو۔ اگر کوئی بھی یہ نہ چاہے کہ اس کی بات کی ریکارڈنگ ہو تو ہم ریکارڈنگ نہیں کریں گے اور اپنے لئے صرف نوٹس لکھیں گے۔

جب ہم ملاقات کے لئے آئیں گے تو کیا ہو گا؟

- ہم آپ کے گھر آئیں گے..... یا اگر کسی اور جگہ آپ ملنا چاہیں تو وہاں آئیں گے۔
- یہ ملاقات کسی ایسے وقت میں کی جائے گی جو آپ کے لئے اور آپ کے گھرانے کے لئے مناسب ہو گا اور یہ ملاقات دو گھنٹے تک کی ہو گی۔
- ہم آپ کے ساتھ مل کر کچھ چیزیں بھی کرنا چاہیں گے جن سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ آپ کی گھریلو زندگی کے لئے کون سی باتیں اہم ہیں:
 - ہم آپ کو ایک کیمرا آپ کے اپنے رکھنے کے لئے دیں گے۔ تاکہ آپ یا آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر ان چیزوں کی تصاویر لینا چاہے جو آپ کے گھرانے کے لئے اہم ہیں تاکہ وہ ہمیں یہ تصاویر دکھا سکے تو وہ ایسی تصاویر کھینچ سکے۔
 - ہم اہم اشخاص اور مقامات کا نقشہ بنانے کی چیزیں اپنے ساتھ لائیں گے۔
 - ہم مقامی علاقے میں سیر کے لئے اکٹھے جا سکیں گے تاکہ آپ ہمیں دکھا سکیں کہ آپ کے لئے وہاں کون سی چیزیں اہم ہیں۔

جب ہم آپ کو فون کریں گے تو کیا ہو گا؟

- آپ کو ہماری ملاقات کے چھ مہینے بعد فون آئے گا۔
- اس میں تقریباً آدھ گھنٹہ لگے گا اور ہم ایسے وقت میں آپ سے بات کریں گے جو آپ کے لئے مناسب ہو گا۔
- ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ آپ اور آپ کے گھرانے میں کیسے کام چل رہا ہے۔

جو معلومات آپ ہمیں دیں گے ان کا کیا کیا جائے گا؟

- ہم ہر سال ایک رپورٹ تیار کریں گے اور جائزے کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ ہم اپنے جائزے میں جو بھی معلومات تحریر کریں گے ان میں کسی کا نام نہیں لکھا جائے گا اس لئے کسی کو یہ نہیں پتہ چل سکے گا کہ کس نے کیا کہا تھا۔

- آپ ہمیں جو بھی بتائیں گے انہیں خفیہ رکھا جائے گا۔
- ایک ہی صورت میں استثناء ہو سکتی ہے اگر ہمیں یہ فکر ہو کہ ممکن ہے کہ کوئی غیر محفوظ ہے اور اسے کوئی نقصان پہنچ سکنے کا احتمال ہو سکتا ہے۔

اس کے کیا فوائد ہیں؟

- اس تحقیق میں حصہ لینے سے آپ کو سیدھے کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس تحقیق سے مستقبل میں گھرانوں کو فائدہ پہنچ سکے گا کیونکہ ہم وہ طریقے دریافت کر سکیں گے جن سے ان سروسز کو بہتر کیا جا سکے۔
- آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لئے ہر گھرانے کو ہماری ملاقات کے وقت 30 پاؤنڈ کا واؤچر دیا جائے گا؛
- ہر مرتبہ جب ہم معلومات کے حصول کے لئے فون کریں گے تو 20 پاؤنڈ کا واؤچر دیا جائے گا۔
- یہ واؤچر آپ کے لئے دیا جائے گا خواہ آپ اس تحقیق میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ ہی کریں۔

کیا اس میں کوئی مشکلات یا خطرات ہوں گے؟

- اپنے گھرانے کے بارے میں بات کرتے وقت ممکن ہے آپ کو کچھ مشکل باتیں یاد آئیں۔ اگر کوئی ایسے سوالات ہوں جن کا جواب دینا آپ کے لئے تکلیف دہ ہو تو آپ انہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ پریشان ہو جائیں تو آپ وقفہ لے سکتے ہیں یا پھر اس گفتگو کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔

کیا آپ کے لئے اس میں حصہ لینا لازمی ہے؟

- نہیں۔۔۔۔۔ اس میں حصہ لینا آپ کی اپنی مرضی پر ہے۔
- آپ کے فیصلے کی وجہ سے ABS یا کسی دوسرے ادارے سے آپ کو ملنے والی سروسز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

اگر آپ اس میں حصہ لینا شروع کریں تو کیا بعد میں آپ اسے ختم کر سکتے ہیں؟

- جی ہاں۔۔۔۔۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہو گی۔
- آپ کے فیصلے کی وجہ سے ABS یا کسی دوسرے ادارے سے آپ کو ملنے والی سروسز پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔

یہ جائزہ کون لے رہا ہے؟

- یونیورسٹی آف سسیکس کی ایک ٹیم گھرانوں سے بات چیت کر رہی ہے۔ آپ یہاں ہماری تصاویر دیکھ سکتے ہیں:



Rebecca Webb
ریبکا ویب

Ali Lacey
ایلی لیسے

Gill Hampden-Thompson
جل ہمپڈن
تھامپسن

Janet Boddy
جینٹ باڈی

Tammy McCann
ٹیمی میکین

Kate Lester
کیٹ لیسٹر

- آپ کسی بھی وقت ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔
- جو گھرانے اس تحقیق میں حصہ لیں گے انہیں ہم نیوز لیٹر بھیجیں گے تاکہ ہم انہیں بھی بتا سکیں کہ ہم نے کیا سیکھا ہے۔
- مزید جاننے کے لئے ایلی لیسے Ali Lacey سے رابطہ کریں:
- ٹیلیفون: 07823515120
- ای میل: a.lacey@sussex.ac.uk
- آپ قومی جائزے کے بارے میں اس ویب سائٹ پر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں: www.natcen.ac.uk/abs

اگر آپ کسی چیز کے بارے میں ناخوش ہیں یا شکایت کرنا چاہتے ہیں؟

- ہمارے اس کام کی اجازت یونیورسٹی آف سسیکس کے سوشل سائنسز اینڈ آرٹس ڈپارٹمنٹ کے اسکولوں کے مابین تحقیق کرنے کے مقررہ اخلاقیات کمیٹی نے دی۔ یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ جو لوگ تحقیق میں حصہ لیں ان کو محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس تحقیق کے کسی امر سے ناخوش ہیں تو براہ مہربانی ان سے رابطہ کریں: c-recss@sussex.ac.uk

ہم آپ کی معلومات کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں؟

- جو معلومات بے نام نہ ہوں ان کا علم صرف سسیکس کی ٹیم جن کی تصاویر اوپر دی گئی ہیں، انہیں ہو گا اسی طرح انٹریپرٹر اگر انہیں ترجمہ کے لئے استعمال کیا گیا اور یہ معلومات لکھنے والوں کو جو ریکارڈنگ کو تحریر کریں گے ہو گا اور یہ سب ان معلومات کو رازداری سے رکھنے کے پابند ہیں۔
- ہم اس تحقیق کے خاتمے کے بعد پانچ سال تک آپ کی معلومات اپنے پاس رکھیں گے۔ ہر چیز قانون کے مطابق بحفاظت رکھی جائے گی۔ کسی بھی ذاتی معلومات کے بارے میں سسیکس ٹیم کے افراد کے علاوہ کسی سے بات نہیں کی جائے گی۔
- اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہم آپ کی معلومات اس تحقیق میں نہ شامل کریں۔۔۔۔۔ تو بھی ٹھیک ہے۔ آپ ہماری ذاتی ملاقات یا ٹیلیفون کی کال کے بعد دو مہینے تک کے عرصے میں ہمیں ایسا کرنے سے منع کر سکتے ہیں۔
- نیشنل لائٹری کمیونٹی فنڈ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گھرانوں کی۔۔۔۔۔ بے نام معلومات محفوظ رکھی جائیں اور شناخت کر سکنے والی معلومات کو ان میں سے نکال دیا جائے۔ تاکہ دوسرے محققین بھی مستقبل میں اس تحقیق سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب وہ یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو آپ کو اس کی اطلاع دی جائے گی۔۔۔۔۔ لیکن یہ آپ کی مرضی ہو گی۔ اگر آپ اس تحقیق میں حصہ لیتے ہیں تب بھی آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی یہ معلومات مستقبل کے لئے بھی محفوظ رکھی جائیں۔ اسی طرح اس تحقیق کے خاتمے تک آپ کسی بھی وقت اپنا ارادہ بدل سکتے ہیں۔

ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے یہ معلومات پڑھنے کے لئے وقت نکالا۔

